

اَمْنُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ

آبادہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْتَبَاهُ حُدَايِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا

سے پانی تمہارا پھر بنے اُس کے ذریعہ سے بارونق باغات پیدا کر دیے تمہاری اور

كَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْتَبُوا اشْجَرًا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ

یہ سفارت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگالو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور ہوتا ہے؟ (ہے نہیں)

قَوْمٌ يَعْبُدُونَ ۝ اَمْنٌ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ

لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں آبادہ کون ہے جس نے زمین کو گامے قرار فرمایا ہے اور اس کے

خَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

بیچ بیچ میں دریا بہا دیے ہیں اور اُس کے لیے بڑے بھاری بھاری ٹھکانے اور دریاؤں کے مابین لیکر

حَاجِزًا ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَلْاَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ اَمْنٌ

مائل کر دیا ہے آبادہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (ہے نہیں) مگر ان میں بہت گنہگار ہیں - آبادہ کون ہے جو

يَجِيبُ الْمُنْظَرَةَ اِذَا دَاعَاهُ وَكَشِفَ السُّوقَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ

منظر کی دعا قبول کر دیتا ہے جیسا کہ وہ دعا مانگے اور ٹھیک کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا مالک

وَحُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

مقرر کرتا ہے آبادہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (اگر اسلئے تمہوں کو تم کس قدر کم سوچتے ہو

اَمْنٌ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّسَالَاتِ

آبادہ کون ہے جو خشکی اور تری کی اندھیروں میں تمہاری ماہیبری کرتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت ابارش کر

بَشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا

پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جس نے تمہیں کو بھیجا ہے اور

يُنشِئُ كُوْنًا ۝ اَمْنٌ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُاهُ وَمَنْ يَرْزُقُهٗ

وہی ذات ان سب کے برسی آبادہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اُسکو دوبارہ پھر دیکھا اور وہ کون ہے جو



Handwritten notes at the top of the page.

Vertical handwritten notes on the left side of the page.

Vertical handwritten note on the right side of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ زمین سے تھوڑی سی جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔

التَّمَلُّلُ

الْمَنْجَلِيُّ السُّعُوتِيُّ

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَمَلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟

لَٰن كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ

اپنی دلیل پیش کرو تم کہہ دو کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں (ان میں سے) کوئی

وَالْأَرْضِ لَغَيْبٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

غیب کو اسے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ بھوت کب کیے جائیں گے؟

بَلْ ذَرَكُوعَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا فَد

بلکہ ان کا علم تو آخرت میں جا کر پورا ہوگا بلکہ وہ اسکی طرف سے شک میں ہیں

بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَكْتٰ

بلکہ اسکی طرف سے یہ اندھے (قطعاً خبر) ہیں اور جو لوگ کافر ہو گئے انہوں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم

تُرٰبًا وَّآبًا وَّنَا إِنَّا أَكْرَجُونَ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ

اور ہمارے باپ دادا اسٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نکالے جائیں گے؟ اسکا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے

وَأَبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِن هٰذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

پہلے ہی سے وعدہ ہوتا جا چلا آیا یہ تو فقط اسکی لوگوں کی کہانیاں ہیں

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

تم کہہ دو کہ تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گنہگاروں کا انجام

الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا

کیسا ہوا؟ اور (اسے رسول) نہ کہنے لے انہوں نے نہ کرو اور جو چاہیں یہ جلتے ہیں ان سے

يَمْكُرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ

دل تنگ نہو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ (عذاب)

صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدْفٌ لَّكُمْ بَعْضُ

کب آئے گا؟ تم کہہ دو کہ جسکی تم جلدی کر رہے ہو قریب ہے کہ اسکا کچھ حصہ

اور وہ اس کو دیکھا ہے کہ وہ زمین سے تھوڑی سی جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔

میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ زمین سے تھوڑی سی جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔ اس کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے جس کے پتے اس کے سر پر ہیں۔

الَّذِي تَسْتَعْلُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

تھارے میں پشت آہی پہنچا ہو اور بیشک تمہارا پروردگار کل آدمیوں پر فضل کرنے والا

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ

ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں اور بیشک تمہارا پروردگار ان پر

لِبَعْلَمٍ مَا لَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا مِنْ

چیزوں کو جانتا ہے جگو انکے دل چھپائے ہوئے ہیں اور جگاہ اظہار کرتے ہیں اور آسمان وزمین

غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ إِنَّ

میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی کتاب میں نہ ہو بیشک

هَذَا الْقُرْآنُ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَثْرَ الَّذِي هُمْ

یہ قرآن بنی اسرائیل سے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اختلاف کیا کرتے ہیں اور یقیناً یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

بیشک تمہارا پروردگار انکے مابین اپنے حکم سے فیصلہ کریگا اور وہ بڑا زبردست (اور) جاہل والا ہے

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ

پس تم اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً تم (صاف سماعت) پر ہو یہ ضروری بات ہو کہ تم

الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

موتوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے ہیں

وَمَا أَنْتَ بِهَدَىٰ الْعَمَىٰ عَن ضَلَاتِهِمْ لَئِنْ سَمِعُوا

اور نہ تم اندھوں کو گمراہی سے راہ راست پر لاسکتے ہو تم صرف انہیں گمراہی کو سنا سکتے ہو

مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ

جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے لایسے لگاتار والے ہیں اور جب بات پھر پوری ہو گی

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page.

Handwritten word 'ماتل' in a diamond shape on the left margin.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page.

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'امین علی المصنوع' and the page number '۶۱۲'.

امین علی المصنوع ۶۱۲ الشکل

عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
 رَبُّهُمْ أُمَّةٌ مِّنْ بَيْنِ أُمَّةٍ نَّحْيِيهَا وَلَئِن كُنَّا لَنَكَلِّمُهُمْ
 إِنَّا لَنَشْكُرُ لَكُمْ وَلَئِن كُنَّا لَنَكَلِّمُهُمْ
 مِّنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوَاجِمٌ مِّنْ بَيْنِ أُمَّةٍ نَّحْيِيهَا
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالُوا كَذَّبْتُمَا بَيْنِي
 عِلْمًا مَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 بِمَا ظَلَمُوا أَهْلَكُوا نَفْسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 الْبَل لَيْسَ لَكُم مِّنْهُنَّ حِلٌّ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ فِي ذَلِكَ
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ يَشَأْ اللَّهُ
 أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ وَأَلَمْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْكُمْ فَيَنْزِلْ
 تَمْرًا مِّنَ السَّمَاءِ صَوَّبَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ
 وَهَدَىٰ لَكُمْ سُبُلَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ

Extensive handwritten commentary on the right side of the page, including a large 'مذکورہ' (Muzkurah) section.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

يَعْمَلُونَ مَا تَأْمُرُونَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

اور وہ اس دن خون سے امن میں ہونگے اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار

وَهُمْ مِنْ فِرْعَوْنٍ يَوْمَئِذٍ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِّئَةِ

اور وہ اس دن خون سے امن میں ہونگے اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار

تَعْمَلُونَ ۝ لَئِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدُوا هَذَا إِلَهًا

اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار

وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ مِمَّنْ هُمْ

اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار

فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا

اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار

مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ إِلَهِكُمْ

اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار اور جو بری لیکر آئے وہ اس سے گنہگار

سُوءَ الْقَصْرِ مَكِينًا وَمِثْلَ مَا تَأْمُرُونَ ۝

وَاللَّهُ الرَّحِيمُ

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'تذکرہ' (Tadhkirah) section.



Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary or providing additional context.

Handwritten notes at the top of the page, including the page number ۶۱۳.

طَسَمَ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ تَنَالُوا

تسمہ لکھ کر تمہاری کتاب کی آیتیں ہیں ہم ان لوگوں کو نظر

عَلَيْكَ مِنْ نَبِيِّمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ

جو ایمان رکھتے ہیں تم کو مرنے اور زبون کی جی بڑ بڑھانے

يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

ہیں بیشک زون اس سرزمین میں قاب تھا اور اس کے باشندوں

أَهْلًا شِبَعًا يَسْتَضِعُونَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَفْسِدُونَ

کو اس نے کئی گروہ بنا دیا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کو گزرد رکھتا تھا ان کے بڑوں کو ذبح

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ سَاءَ هُمْ لِرَبِّهِمْ

کیا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو نکلا رکھتا تھا بیشک وہ فساد کرنے والوں میں

الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ

سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو اس سرزمین میں

أَسْتَضِعُّوْنَ فِي الْأَرْضِ وَنَجَعْنَا لَهُمْ آيَةً ۝

گزرد کر دیے گئے ہیں احسان کریں اور ان کو آئینہ بنا لیں اور

نَجَعْنَا لَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُفَعِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ۝

ان کو ہم وارث قرار دیں اور اس زمین میں ان کو تسلط عطا کر دیں اور اس

يُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا

زبون کو اور ہامان کو اور ان دونوں کے لشکر کو جو انہی میں سے تھے وہ دیکھ دیکھا میں نے ان کو

كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ مُوسَىٰ أَنْ

خوف سے) خوف کیا کرتے تھے اور چنے والے اور مرنے کی طرف وحی کی کہ تم

أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِيفَتْ عَلَيْهِ فَلَقِيهِ فِي الْبَيْتِ

Extensive handwritten notes on the right side of the page, providing commentary and translations for the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَيْنَا دُورَهُ لَمَالِكٍ وَجَاءَ عَلْوَةٌ

اور ہم نے اسے آئندہ کہتے ہوئے اور نہ اس کے فراق کا ایسا درد دیکھا کہ تمہاری طرف سے ہو گیا اور اس کو سہولت

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ قَالَتْ قَطْرَةُ أُلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ

میں سے بھی تڑا رہے گا جس فرعون کے گنہگاروں نے اس کو اٹھایا اور اس کی خبر نہ تھی کہ وہ

حَدُوا وَأَحْزَنُوا إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا

رہا ان کے لیے دشمن اور رنج (کا باعث) ہو گا ایک فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر

كَانُوا أَخْطِبِينَ ۚ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنًا

نظارہ رکھے اور زویہ فرعون نے یہ کہا کہ میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہو گا اور

لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا كَا عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ

میری آنکھ کی بھی اسے قتل مت کرو قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا

وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرٍ مُوسَىٰ

بنائیں حالانکہ اس کو آئندہ کی خبر نہ تھی اور والدہ موسیٰ کا دل چین

فِرْعَانَ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّمَا

ہو گیا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے کہ وہ ایمان لائے لوگوں میں سے رہے تو زہر تھا کہ

قَلْبَهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَقَالَتِ لَأُخْتِبُهُ

وہ اس کے شوق راز کو ضرور کھول دیتی اور اسے مونس کی بہن سے کہا کہ

قُصْبُهُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

میرے لیے اس کے بچے کی جگہ جلی جاہیں وہ دور سے اس کو دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی

وَحَرَّمَ نَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ

اور مجھے اس پر اور دایاں تو چھپی سے حرام کر دی تھیں تو اسے (جا کر) کہا کہ کیا

أَدْرَاكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

میں کو ایسے سکر والے بتلاؤں جو تمہاری خاطر اس بچے کی کفالت کریں اور وہ اس کے

Handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the text.

تَاٰصِحُوْنَ ۝ فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اٰمِهِ كِي تَفْرَعِيْنَهَا وَلَا

خیر خواہ (جی) ہوں پس میں نے اسے کو اُنکی والدہ کے پاس لوٹا دیا کہ اُنکی آنکھیں بند نہ ہوں اور وہ

تَعَزَّنَ وَلِتَعْلَمَنَّ وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا وَّلٰكِنَّا كَثَرْتُمْ

بچ نہ کرے اور وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ

لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّاهُ وَاَسْتَوٰى اَتَيْنَهُ

ناواقف ہیں اور جبکہ مرنے اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ہاتھ پاؤں نکالے تو

حُكْمًا وَّعِلْمًا وَاَكْذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَا

ہنسا انکو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا اور ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور

دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حَيِّنٍ غَفْلَةً مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ

وہ شہر میں ایسے وقت جبکہ اہل شہر غافل تھے پہنچے تو اُس میں دو شخصوں کو

فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلِيْنَ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ

ڑنے ہوئے یا ایک تو ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک اُن کے

عَدُوٍّ ۝ فَاَسْتَعَاثَ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلٰى الَّذِيْ

دشمنوں میں سے جس اُس شخص نے جو اُنکے شیعوں میں سے تھا اُس شخص کے برضات

مِّنْ عَدُوٍّ ۝ فَوَكَرَهُ مُوسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا

جو اُنکے دشمنوں میں سے تھا اُنے استعاذہ کیا پس موسیٰ نے اُسکے ایک گونہہ مارا کہ اسکا تپوٹا نرمانا لے کر دے

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ لَآئِهٖ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَ

(اے جبرائیل) شیطان کی کارروائی تھی بیشک وہ گھلا دشمن (اور) بھٹکا نیرالا ہے عرض کرنے لگا

رَبِّ لَآئِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ وَاِنَّهٗ هُوَ

کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ کو یہاں بے موقع بہنایا پس توجھے بچالے (یعنی دشمن کی نظر سے پوشیدہ کر دیا)

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلٰى

پس ازاں کو بچا لیا بیشک وہ بڑا بخشنے والا (اور) تم کو نیرالا ہی عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار سب سے بڑا بخشنے والا (اور) رحیم

توضیحات و تفسیرات:
تَاٰصِحُوْنَ: خیر خواہ (جی) ہوں۔
فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اٰمِهِ: اسے اس کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔
تَعَزَّنَ: بچ نہ کرے۔
وَلِتَعْلَمَنَّ: اور وہ یہ بھی جان لے۔
لَا يَعْلَمُوْنَ: ناواقف ہیں۔
وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّاهُ: اور جبکہ مرنے اپنی پوری قوت کو پہنچے۔
حُكْمًا وَّعِلْمًا: ہنسا انکو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔
دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حَيِّنٍ غَفْلَةً: وہ شہر میں ایسے وقت جبکہ اہل شہر غافل تھے۔
فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلِيْنَ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوٍّ: وہاں دو شخصوں کو ایک تو ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک اُن کے دشمنوں میں سے تھا۔
فَاَسْتَعَاثَ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلٰى الَّذِيْ مِنْ عَدُوٍّ: اُس شخص نے جو اُنکے شیعوں میں سے تھا اُس شخص کے برضات۔
مِّنْ عَدُوٍّ: اُس شخص کے برضات۔
فَوَكَرَهُ مُوسٰى: موسیٰ نے اُسکے ایک گونہہ مارا۔
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ لَآئِهٖ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ: شیطان کی کارروائی تھی بیشک وہ گھلا دشمن (اور) بھٹکا نیرالا ہے۔
رَبِّ لَآئِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ: اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ کو یہاں بے موقع بہنایا پس توجھے بچالے۔
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ: بڑا بخشنے والا (اور) رحیم۔
قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلٰى: ازاں کو بچا لیا بیشک وہ بڑا بخشنے والا (اور) تم کو نیرالا ہی عرض کرنے لگا۔

توضیحات و تفسیرات:
تَاٰصِحُوْنَ: خیر خواہ (جی) ہوں۔
فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اٰمِهِ: اسے اس کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔
تَعَزَّنَ: بچ نہ کرے۔
وَلِتَعْلَمَنَّ: اور وہ یہ بھی جان لے۔
لَا يَعْلَمُوْنَ: ناواقف ہیں۔
وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّاهُ: اور جبکہ مرنے اپنی پوری قوت کو پہنچے۔
حُكْمًا وَّعِلْمًا: ہنسا انکو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔
دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حَيِّنٍ غَفْلَةً: وہ شہر میں ایسے وقت جبکہ اہل شہر غافل تھے۔
فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلِيْنَ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوٍّ: وہاں دو شخصوں کو ایک تو ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک اُن کے دشمنوں میں سے تھا۔
فَاَسْتَعَاثَ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلٰى الَّذِيْ مِنْ عَدُوٍّ: اُس شخص نے جو اُنکے شیعوں میں سے تھا اُس شخص کے برضات۔
مِّنْ عَدُوٍّ: اُس شخص کے برضات۔
فَوَكَرَهُ مُوسٰى: موسیٰ نے اُسکے ایک گونہہ مارا۔
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ لَآئِهٖ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ: شیطان کی کارروائی تھی بیشک وہ گھلا دشمن (اور) بھٹکا نیرالا ہے۔
رَبِّ لَآئِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ: اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ کو یہاں بے موقع بہنایا پس توجھے بچالے۔
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ: بڑا بخشنے والا (اور) رحیم۔
قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلٰى: ازاں کو بچا لیا بیشک وہ بڑا بخشنے والا (اور) تم کو نیرالا ہی عرض کرنے لگا۔

فَلَنْ أَكُونَ ظَهيراَ الْمَجْرُمِينَ ۝ فَأَصْبَحُوا فِي الْمَدِينَةِ

میں کبھی گنہگاروں کا پشت پناہ نہ ہو گا جس سوئے نے اس شہر میں اس حال میں

خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَصْرَهُ بِالْأَمْسِ

کی خوف بھی کھاتے تھے اور اس بھی لگائے ہوئے تھے یکایک دیکھتے کیا ہیں کہ میں شخص نے کل سے دو گلی

يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ ۝

تھی (آج بھی) آنکو پکار رہا ہوں سوئے نے اس سے فرمایا کہ تو صریح گواہ ہے

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ

پھر جب یہ ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا مغلوب کر دیں تو اس نے یہ کہا کہ

يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ

اسے سوئے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے بھی اسی طرح قتل کر دو جس طرح نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا

لَنْ تُرِيدَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ

بیس تم بھی چاہتے ہو کہ اس زمین میں بڑے سرکش بن جاؤ اور یہ نہیں چاہتے کہ

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ أَقْصَا

اصلاح کرنے والوں میں سے ہو اور اس شہر کے انتہائی حصہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا

الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُتَوَرَّونَ

آیا (اور) کہنے لگا کہ اسے سوئے ارکان دولت تمہارے پاس سے یہ سترہ

بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجْنِي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ۝

کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں پس تم فوراً نکل جاؤ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ

پس سوئے اس شہر سے ڈرتے ہوئے اور اس لگائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کرنے لگے کہ اے

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ

پر پہنچے اور وہاں کچھ ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات نہ اور جب مدین کی طرف ہوئے تو

میں کبھی گنہگاروں کا پشت پناہ نہ ہو گا جس سوئے نے اس شہر میں اس حال میں اس کی خوف بھی کھاتے تھے اور اس بھی لگائے ہوئے تھے یکایک دیکھتے کیا ہیں کہ میں شخص نے کل سے دو گلی تھی (آج بھی) آنکو پکار رہا ہوں سوئے نے اس سے فرمایا کہ تو صریح گواہ ہے پھر جب یہ ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا مغلوب کر دیں تو اس نے یہ کہا کہ اسے سوئے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے بھی اسی طرح قتل کر دو جس طرح نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا بیس تم بھی چاہتے ہو کہ اس زمین میں بڑے سرکش بن جاؤ اور یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو اور اس شہر کے انتہائی حصہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا (اور) کہنے لگا کہ اسے سوئے ارکان دولت تمہارے پاس سے یہ سترہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں پس تم فوراً نکل جاؤ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں پھر جب وہاں سے ڈرتے ہوئے اور اس لگائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کرنے لگے کہ اے ظالم لوگوں میں سے میں نے نجات نہ اور جب مدین کی طرف ہوئے تو

ہاتھ

اور وہ کوئی سواری نہ کوئی قند شکار آگے نہ ہستے، نشیب و فراز طرک کرتے سرحد میں پہنچے۔ اور ایک ایسے درخت کے سایہ میں جا کر رہا جس کے نیچے کھڑا تھا ۱۱

قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٰ اَنْ يَّهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا

کہنے لگے کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے ٹھیک ٹھیک راستہ بتلا دے اور جب

وَرَدَمَا مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

میں کے پانی دکھائیں، پھر پیچھے تو اسپر آدمیوں کے ایک گروہ کو پانی پلائے ہوئے

يَسْقُونَ ۝ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا امْرَاَتَيْنِ

پایا اور ان سے پیچھے کی طرف دو عورتوں کو اپنی بھینبرکیاں روکے ہوئے

تَذُوذِينَ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۙ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ

ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے ان دونوں نے کہا کہ جتنا یہ چرواہے

يَصْدُرَ الرَّعَاءُ مُسْتَقْنٰۙ وَاَبُونَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝ فَسَقَىٰ

(اپنی موٹی کو) نہ پھالیں، ہم نہیں پلا سکتے اور چارے باپ بہت پورے ہیں پس موٹے نے

لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ لِي لِمَا

ان دونوں کو خاطر سے (انکی موٹی کو) پانی پلا دیا پھر سایہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے کہ اس پیر پروردگار جو

اَنْزَلْتَ لِي مِنۡ خَلْفِ فَقِيْرٌ ۝ فِجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا

پیر خونی بھی تو میرے لیے نازل کرے میں اسی کا محتاج ہوں پس ان دونوں عورتوں میں سے ایک

تَمْشِي عَلٰۤی اسْتِحْيَا ۙ زَقَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ

تشرافی ہوتی چال سے اٹکے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں

لِيَجْزِيْكَ اَجْرًا سَقَيْتَ لَنَا ۙ فَلَمَّا جَاءَهَا وَقَصَّ

تاکہ کہنے جو ہماری خاطر سے پانی پلا دیا تھا تم کو اسکا مواضعہ دیں پس جب موٹے اٹکے پاس پہنچے اور

عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ

ان سے اپنا سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب مت ڈرو تمہیں ظالموں کے ہاتھ سے نجات

الظَّالِمِيْنَ ۝ قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا بْتَ اسْتَا جِرَةٌ ۙ

پانی ان دونوں میں سے ایک بولی کہ باباجان! انکو اجرت پر رکھ لیجئے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large vertical word 'مذکورہ' (Muzkurah) and various explanatory text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page in Urdu script.

إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ

کہ جو بھی آپ اجرت پر رکھیں ان میں وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو (شیبہ) فرمایا کہ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ أَحَدًا مِنْ ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى

میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو نولڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ آپ

أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي بِحَبْحَبٍ ۚ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

آٹھ برس میری خدمت کریں پھر اگر آپ دس پورے کر دیں تو یہ آپ کا

عِنْدَكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَكَ سِتْرًا فَنِي

احسان ہے اور میں آپ پر کوئی دباؤ ڈال نہیں چاہتا انشاء اللہ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ

آپ مجھے صالحین میں سے پانینے (سوئے نے) عرض کی کہ میرے اور آپ کے مابین یہ

بَيْنَكَ ۚ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ

ساملتے ہو گیا دو فوجوں میں سے جو نسی مدت بھی میں پوری کر دوں پھر میرے ذمہ کوئی بار

عَلَيَّ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ

ہو گا اور جو کچھ میری اور آپ کی تقریر ہوئی ہے خدا تعالیٰ اسکا شاہد ہے پھر جب سوئے نے وہ

مَوْسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ

مدت پوری کر لی اور اپنے اہل کو لیکر چلے تو انکو کوہ طور کی طرف سے ایک

الظُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ تم میں ٹھہرے رہو میں نے آگ دیکھی ہے

لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ

یا تو میں آسکے پاس سے تمہارے لیے کوئی خبر لیکر آتا ہوں یا آگ کی چٹکاری لاتا ہوں کہ تم

تَصْطَلُونَ ۚ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ

تاپ سکو پھر جب آسکے پاس پہنچے تو اُس مبارک جگہ میدان کے دائیں کنارے سے

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the title 'امین علیؑ' and other commentary.

Vertical handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary on the main text.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

الایمن فی البقعة المباركة من الشجرة ان یموسی

ایک درخت سے اُن کو یہ آواز دیکھی کہ اے موسیٰ

لانی انا الله رب العالمین وان القى عصاكَ

میں ہی تو تمام عالموں کا پروردگار اللہ ہوں اور تم اپنا عصا تو ڈال دو

فلما رآها تهازبا كما تهاجان ولى مدبرا ولم

پھر جب اُس کو اس طرح لہرانا ہوا دیکھا جیسے جیتا جاگتا سانپ تو پیچھے کو پھرتے اور ہرگز

يعقب یموسی اقبل ولا تخف لربك من

نزدیکھا (پھر آواز دیکھی کہ) اے موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں تم یقیناً امن پائیو لوں

الامینين اسلك يدك في جيبك تخرج

میں سے ہو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لو کہ وہ بے جیب

بفضاء من غير سق واضم اليك جناحك

سفيد (اور) رکشش تھیکھا اور رخ خون کے لیے اپنے بازو کو اپنی

من الرهب فذناك برهان من ربك الى فرعون

طن ٹیکر لو پس تمہارے رب کی طرف سے یہ دو جہیز فرعون اور اُس کے

وملايه انهم كانوا قومًا فسقين قال رب

اور بڑوں کے لیے ہیں بیچک وہ ناقران لوگ ہیں (موسیٰ نے) عرض کی کہ

لانی قتلت منهم نفسا فآخاف ان يقتلوني

میرے پروردگار میں نے اُن میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا میں ڈرتا ہوں کہ وہ (معاذ میں) مجھ کو مار ڈالیں

واخي هرون هو اقصم مني لسانا فارسله معي

اور میرے بھائی ہارون میری سب سے زیادہ صبیح ہیں اُنکو میرے ساتھ مددگار

ردا يصداقني لاني آخاف ان يكذبون قال

ناگزرتج کہ وہ میری تصدیق کریں یقیناً میں اس بات ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں (خدا ایتھا نے) فرمایا کہ

کہ موسیٰ نے اپنے رب سے کہا کہ اے پروردگار میں نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو اور میرے بھائی ہارون میرے ساتھ ہیں انکو میرے ساتھ مددگار بنا دے اور انکو میری تصدیق کرنے سے روک دے کہ وہ مجھے جھٹلائیں

شکل

نہایت سے وہیں کی بعضی اور ان کا جھٹلانا اور ان کو قتل کرنے سے روک دینا اور انکو میری تصدیق کرنے سے روک دینا

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مُلْكًا سُلْطَانًا

غزیرب ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارے بازو کو قوی کر دیں گے اور تم دو نو کے لیے ایسا غلبہ تر کرینگے

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ

وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم دونوں جو تم دونوں کی پیروی

اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا

کریں گے وہ ہماری نشانہوں کے ذریعے غالب رہیں گے پھر جب موسیٰ آئے گا اس کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لیکر آئے

بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا

تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو (خدا پر) افترا کیا ہوا جادو ہی ہے اور مجھے تو ایسا اپنے پہلے

بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ

بزرگوں میں ستمناہی نہیں اور موسیٰ نے فرمایا کہ میرا پروردگار اس سے بھی

بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ

خوب واقع ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لیکر آیا ہے اور اس سے بھی جس کے لیے اس گھر کا انجام

الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ

نیک ہے یقیناً ظالم لوگ فلاح نہ پانچیں گے اور فرعون نے کہا کہ

يَأَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي

اسے ارکان دولت میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا جانتا نہیں پس اے ہمان ہماری

يُهَاطَمُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى

خام سے ایک بڑا اونچا چرٹھا پھر ہمارے لیے ایک اونچا محل بنا کر ہم اس پر چڑھ کر

إِلَهُ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَاظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَأَسْتَكْبِرُ

موتے کے خدا کے حالات معلوم کریں لاکر ہم تو اس کو جوڑا ہی جانتے ہیں اور تم نے اور اس کے نظار

هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم

نے اس سرزمین میں ناحق بڑائی چاہی اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ

مع

ہنگامہ

Handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

سابوں کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح زمین سے دیکھا کرتا تھا۔ اور زمین کی طرف جو دیکھتا ہوں تو اندھیرے کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ رعایت میں

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'قصصہ' (Qasas) and the page number '۶۲۲'.

قصصہ ۶۲۲

الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجَنَادَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

ہماری طرف پھینک دیئے۔ پھر ہم نے انکو اور اس کے لشکر کو گرفتار کیا پھر ان کو سمندر

فِي الْيَمِّ ۝ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَ

میں ڈال دیا ہیں غور کرو کہ نافرمان لوگوں کا انجام کیسا ہوا! اور

جَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الثَّارِ ۝ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

ہم نے وہ ایسے سردار بنائے جو ہم کی طرف بلائے ہیں اور قیامت کے دن انکی

لَا يَنْصُرُونَ ۝ وَاتَّبِعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۝

کئی مدد نہ کیا کیلی اور اس دنیا میں ہم نے انکے پیچھے لعنت لگا دی ہے

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا

اور قیامت کے دن وہ (نہایت ہی) برے حال والوں میں سے ہو جائیں گے اور ہم نے انکو بعد اس کے

مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ

کو پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہلاک کر چکے تھے ایسی کتاب عطا فرمائی جو لوگوں

الْأُولَى بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ

کے لیے بصیرت تھی اور ہدایت و رحمت تاکہ وہ نصیحت

يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

حاصل کریں اور اسے پیڑیا جو وقت ہم نے انکے کا معاملہ کیا ہے اُس وقت

إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا

تم تو طور کی غریب جانب موجود تھے اور نہ تم (اس معاملہ کے) سامنے کئیوں میں سے تھے لیکن ہم نے

أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَا ۝ وَل عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ ۝ وَمَا

ہمت سے گروہ پیدا کیے پھر انکے اوپر ایک زمانہ گزر گیا اور نہ تم اہل

كُنْتُمْ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

مدین ہی میں مقیم تھے کہ انکے متعلق انکو ہماری نشانیاں پڑھ کر دکھاتے

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and additional text.

وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِمُحَابِبِ الظَّالِمِينَ

بلکہ ہم ہی مقرر ہوئے تاکہ بھیجے جائیں اور جو ظالموں کے دوست نہ تھے

لَاذْنَابِنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

موجود نہ تھے بلکہ یہ (علم تکویناً تو) تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو

مَّا أَتَوْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

ڈراؤ گئے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانیوالا نہیں آیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت

يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ يَمَّا

موصول کریں اور ایسا نہ کہ ان پر جو کچھ آئے ہاتھوں پہلے ہو چکا ہے اسکے بدلے میں

قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

کوئی نصیحت آئے تو یہ کہہ دیں کہ اسے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں

رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ۝

بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرنے اور ہم بھی ایمان لائے لوگوں میں سے ہو جائے

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْتِي

پھر جب ہمارے پاس سے آئے پاس حق پہنچا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انکو ویسی ہی چیزیں

مِثْلَ مَا أَوْتِي مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ

کیوں نہ دی گئیں جیسی موسیٰ کو دی گئی تھیں تو کیا لوگوں نے انکا جو ہونے کو دی گئی تھیں پہلے سے

مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا

انکار میں کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ یہ دونو جادو گر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور یہ کہہ رہے

لَا نَأْتِيكَ بِكُفْرُونَ ۝ قُلْ فَاتَّقُوا إِلَهَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

کہ ہم توہر ایک کے کفر میں نہیں تم یہ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لاؤ

هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ لَنُكَفِّرَنَّهُ

جو (توریت و قرآن) دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو کہ میں اس کی پیروی کرتے لوں گا

ہاتھ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text.

لَا تَكُ لَا تَهْدِي مِّنْ أَحِبِّتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي

یقیناً جسکو تم چاہو راہ پر نہیں لاسکتے لیکن اللہ جس کو چاہے راہ

مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَقَالُوا

پرلے آئے اور وہ راہ پر آئیوں سے خوب واقف ہے اور انہوں نے یہ

إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا

کہہ کر اگر تم اپنے ساتھ ہدایت کے پیرو ہو جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لے جائیں

أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا مِّنَّا يُجْبِي إِلَيْهِ شَرَاتُ

کیا مجھے انکو ایسے امن دینے والے حرم میں جگہ نہیں دی جیسی جانب ہماری طرف سے رزق کے طور پر

كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ

ہر چیز کے بدل (بکثرت) لاتے جاتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے کچھ

لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ وَبَطِرْنَا

نہیں جانتے اور جتنے کتنے ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو (آسائش سے) اٹھا کر اپنی بسر

مَعِيشَتَهَا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَتِلْكَ مَسْجِدُ لَكُمْ تَسْكُنُونَ

کرتی تھیں اب ان کے مکانات اُنکے بعد بہت ہی کم

بَعْدَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝ وَمَا

آباد کئے اور (اصلی) وارث ہم ہی ہیں اور تمہارا

كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ

پروردگار بستیوں کا برباد کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اُنکے صدر مقام میں کسی رسول کو بھوس

رَسُولًا لَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي

نہ کرے جو انکو ہماری آیتیں پڑھ کر ستائے اور ہم بستیوں کے برباد کرنے والے

الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلًا ظَالِمُونَ ۝ وَمَا أَوْتِينَا

نہیں ہیں سوائے اُس صورت کے کہ اُنکے باشندے نافرمان ہوں اور تم لوگوں کو جو چیز بھی دینی ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text.

حکیم

اسلام دین کا اصل نام گویا اس پر قریب بہت کچھ ہے۔ اور بہت ہی اچھے۔ اور حضرت ابوطالب سے کہا آپ کے بیٹے صاحب کیا کہتے ہیں۔ واہ اللہ اگر اس دم

وہ زندگانی دنیا کا سرمایہ اور اسی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے
 خیر و ائقی طافلا تعقلون اقمین وعدنہ
 وہی (سب) بہتر اور زیادہ باقی رہے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے
 وعدا احسنافو لاقمہ کمن متعنہ متاع
 اور اسکو وہ وعدہ کرنے والا بھی ہے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ اپنے دنیا کے
 الحیوۃ الدنیاء ہمہو یوم القیمۃ من المحضیین
 سرمایہ سے بچ پھریا ہے پھر وہ قیامت کے دن (عذاب کے لیے) حاضر کیا جائیگا
 ویوم ینادیہم فیقول این شرکاء الذین
 اور جس دن خدا آنگو آواز دے گا پھر فرمائیگا کہ میں وہ شریک کہاں ہیں جن پر
 کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم
 تم گھنڈ کیا کرتے تھے اس وقت وہ لوگ جن پر ہمارا قول ثابت ہو جائیگا
 القول ربنا ہوں لاء الذین اغویناہ اغویناہم
 یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ جنکو ہم نے بھلا یا اپنے انکو اسی طرح بھلا
 کما غویناہ تبرانا لیک زما کنا انواتانا
 جس طرح ہم خود بھگ گئے تھے اب تم تیری صورتوں میں اتنے تبر کر گئے ہیں یہ ہماری پرستش نہیں
 یعدون وقیل ادعوا شرکاءکم
 کیا کرتے تھے اور ان سے کہا جائیگا کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو
 فدعوا ہم فلم یتحبیبوا ہمورا والعذاب
 پس وہ انکو پکاریں گے اور وہ انکو کوئی جواب نہ دینگے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور یہ تمنا کریں گے
 لو انہم کنا یوتدوون ویوم ینادیہم
 کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے اور جس دن خدا آنگو آواز دے گا

۶۲۶ القصص ۱

اور وہ جو دنیا کا سرمایہ ہے اور اسی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے
 خیر و ائقی طافلا تعقلون اقمین وعدنہ
 وہی (سب) بہتر اور زیادہ باقی رہے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے
 وعدا احسنافو لاقمہ کمن متعنہ متاع
 اور اسکو وہ وعدہ کرنے والا بھی ہے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ اپنے دنیا کے
 الحیوۃ الدنیاء ہمہو یوم القیمۃ من المحضیین
 سرمایہ سے بچ پھریا ہے پھر وہ قیامت کے دن (عذاب کے لیے) حاضر کیا جائیگا
 ویوم ینادیہم فیقول این شرکاء الذین
 اور جس دن خدا آنگو آواز دے گا پھر فرمائیگا کہ میں وہ شریک کہاں ہیں جن پر
 کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم
 تم گھنڈ کیا کرتے تھے اس وقت وہ لوگ جن پر ہمارا قول ثابت ہو جائیگا
 القول ربنا ہوں لاء الذین اغویناہ اغویناہم
 یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ جنکو ہم نے بھلا یا اپنے انکو اسی طرح بھلا
 کما غویناہ تبرانا لیک زما کنا انواتانا
 جس طرح ہم خود بھگ گئے تھے اب تم تیری صورتوں میں اتنے تبر کر گئے ہیں یہ ہماری پرستش نہیں
 یعدون وقیل ادعوا شرکاءکم
 کیا کرتے تھے اور ان سے کہا جائیگا کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو
 فدعوا ہم فلم یتحبیبوا ہمورا والعذاب
 پس وہ انکو پکاریں گے اور وہ انکو کوئی جواب نہ دینگے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور یہ تمنا کریں گے
 لو انہم کنا یوتدوون ویوم ینادیہم
 کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے اور جس دن خدا آنگو آواز دے گا

کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے اور جس دن خدا آنگو آواز دے گا

مکثر

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَمِثَّتْ

پھر یہ فرمایا کرتے ہیں پیروں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر اُس دن اُن سے

عَلَيْهِمْ أَالْأَنْبَاءُ يُعْمِدُ فِيهَا فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

کوئی جواب نہیں پڑیگا (اور) وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے

فَمَا تَمَنَّاهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِمَّنْ تَبَوْا ۝

پھر ہر شخص تو یہ کر لیا اور ایمان لے آئیگا اور نیک عمل کر لیا تو امید ہے کہ

يَكُونُوا مِنَ الْمُقْبِلِينَ ۝ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

وہ فلاح پائیوں میں سے ہو جائے اور تمہارا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى

اور تم منتخب کرتا ہے بندوں کو (انتخاب کا) کوئی اختیار نہیں ہے جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

اللہ اُن سے منترہ اور برتر ہے اور تمہارا پروردگار اُن چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے

وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ

اور انکو (بھی) چلو کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور وہی اللہ ہے جسے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اول و

الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ زُورَةٌ أَلْحَمُّهُمُ وَلِيَّهُ

آخر ہر قسم کی تعریف اُسی کے لیے زیادہ ہے اور اُسی کو حکم (کا حق) حاصل ہے اور تم سب کی بازگشت

تَرْجِعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

اُسی کی طرف ہوگی (اے رسول) تم یہ کہو کہ آیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن تم پر برابر

الْبَيْتَ سَرْمَدًا لِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ

رات ہی کو تسلط کر دیتا تو اللہ کے سوا اور کونسا مہبود ہے جو تمہارے

يَأْتِيكُمْ بِنُورٍ ۝ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

بے روشنی لے آتا کیا تم (تو مجھ سے) نہیں سنتے؟ تم یہ کہو کہ آیا تم نے سوچا کہ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

ہم

نور میں نہایت سے افضل کم روش پروردگار کی قدرت کا احساس کر کے وہاں بھی اس کی عبادت میں ایمان کے ساتھ جہانم آئے اول ہونے کے

عقوبات اہل اسلام سے پہلے ان کا عقوبت ہو جائے گا اور ان کے عقوبت سے پہلے ان کی عقوبت ہو جائے گی۔

لَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اگر اللہ قیامت کے دن تک کے لیے تم پر برابر دن ہی رکھتا تو اللہ کے سوا

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ لَيْلٌ تَسْكُنُونَ فِيهَا

کون ایسا سمجھو ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا جس میں تم آرام کرتے

أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۝ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ

کیا اسے تم (دیدہ دل سے) نہیں دیکھتے اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات (بھی)

النَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

بنائی اور دن (بھی) تاکہ اس (رات) میں تم آرام کرو اور اس لیے کہ (دن میں) تم اس کے فضل

فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَيَوْمَ مِينَادِمُهُمْ فَيَقُولُ

کے خوشگوار ہو اور اس لیے کہ (عام طور پر) تم شکر گزار بنو اور جہنم خدا تعالیٰ کے انکو بلایا گیا پھر دریافت کیا

أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ وَتَزَعْنَا

کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جنکی نسبت تم گمان کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر رات

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا أَفَلَنْتُمْ أَهَاتُوا أَمْ هَانَتْكُمْ

میں سے ایک ایک گواہ کو الگ کر لینگے پھر ہم (آئے) کہینگے کہ تم اپنی اپنی دلیل پیش کرو

فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

اس وقت وہ سمجھ لینگے کہ حق تو اللہ ہی کا ہے اور جو جھوٹی باتیں وہ دنیا یا کرتے تھے وہ سب اُنے

يَفْتَرُونَ ۝ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسَىٰ

جاتی رہیں بیشک قارون موائے کی قوم میں سے تھا

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا لَانَ

پھر وہ اُنے باغی ہو گیا تھا اور ہم نے اُسکو خزانوں کی اتنی مقدار دی تھی کہ

مَفَاتِحُهَا لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ قَالَ قَالَ

آنکی کنجیاں بڑے قوت والے کثیر گروہ پر بھی گراں گزرتی تھیں جس وقت اُسکی قوم کو

قارون کا نام ہے حضرت موسیٰ کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی قوم میں سے تھے۔ اور اللہ نے ان کو کئی نعمتیں دی تھیں۔ لیکن ان کی کبر و تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی قوم میں سے تھے۔ اور اللہ نے ان کو کئی نعمتیں دی تھیں۔ لیکن ان کی کبر و تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا۔

مذکورہ

ہا

اور اللہ نے ان کو کئی نعمتیں دی تھیں۔ لیکن ان کی کبر و تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی قوم میں سے تھے۔ اور اللہ نے ان کو کئی نعمتیں دی تھیں۔ لیکن ان کی کبر و تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا۔

لَهُ قَوْمَةٌ لَا تَفْرَحُونَ بِاللَّهِ لَا يَحِبُّ الْفَرِحِينَ

اُس سے کہا کہ تو اترا نہیں یقیناً اللہ اترا نبیوں کو دوست نہیں رکھتا

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دے رکھا ہے تو اُس کے ذریعہ سے دارِ آخرت کا طلب گار ہو اور اپنے دنیا کے

نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

حصہ کو فراہم فرما کر اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی

لِلْبَيْتِ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ

(اللہ کے بندوں کے ساتھ) احسان کر اور زمین میں فساد کا خواہش گار نہ ہو بچک اللہ

لَا يَحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ط قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى

فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اُس نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے تو اُس علم کے ذریعہ سے

عِلْمٍ عِنْدِي ط أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ

دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے اُس سے پہلے بہت سے

مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً

گروہوں کو جو اُس سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور گروہ میں بھی ہلاک کر دیا تھا

وَ أَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

اور پہلے گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی بابت سوال نہ کیا جائیگا

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ

پھر وہ اپنی قوم کے سامنے بناؤ سنگار کر کے نکلا تو وہ لوگ جو زندگانی دنیا

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ

کے طلب گار ہیں کہنے لگے کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا کچھ ہوتا

مَا أُوْتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَكُدُوحٌ عَظِيمٌ

جیسا کچھ قارون کو دیا گیا ہے یقیناً وہ بڑا صاحبِ نصیب ہے

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لهُ مَخْرَجًا مِمَّا يُرِيدُ' and 'وَاللَّهُ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَخْرَجًا'.

Vertical handwritten notes on the left margin, providing commentary on the verses, such as 'قوت زانفت جوانی اور عیش و کامرانی' and 'عقل و تدبیر اور غلبہ و غرور'.

Handwritten notes at the bottom of the page, including phrases like 'اللہ تعالیٰ نے قارون کو دنیا کی دولتیں عطا فرمائی تھیں' and 'قارون نے ان کو مانگنا شروع کیا'.

وَقَالَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْعِلْمَ وَيُكْمِّرُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ

اور ان لوگوں نے جنکو علم دیا گیا تھا یہ کہا کہ تمہارا بڑا ہو اس شخص کے لیے جو

لَمِنْ اَمِنْ وَعَمَلٍ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا اِلَّا

ایمان لائے اور نیک عمل کے اللہ کی طرف سے جو سادہ نہ بلکہ گاہ بہت ہی اچھا اور پختہ

الصِّدْرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهٖمْ وِبْدَارِهَا الْاَرْضَ فَمَنَّا

سو گھر کرینو لوگوں کے کسی اور کو نہیں کھائی جاتی پھر ہتے فارون کو اور اس کے مکان کو زمین میں دھاویا پس نہ

كَانَ لَهٗ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُوْنَہٗ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا

اسکا کوئی گروہ تھا جو اللہ کے عذاب سے بچائے میں اسکی نصرت کرتا اور نہ وہ خود ہی

كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۝ وَاَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا

اپنے آپ کو بچا سکا اور وہ لوگ جو کل اسکی نصرت کی خواہتگاری

مَكَانَةً بِالْاَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللّٰهُ يَبْسُطُ

کہہ تھے کہنے لگے ہے ہے یہ تو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسکیلے

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا

چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جسکیلے چاہتا ہے اٹکل کر دیتا ہے اگر

اَنْ مِّنَ اللّٰهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاهُ وَيَكَانُہٗ لَا يُفْلِحُ

اللہ نے ہمپر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھا دیتا ارے غضب کا فرو تو کہیں

الْكٰفِرُونَ ۝ يَتْلُكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةَ تَجْعَلَهَا

بناہ ہی نہیں پاتے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں

لِلَّذِيْنَ لَا يَرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فِسَادًا

جو نہ زمین میں تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد

وَالْعٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ

اور انجام نیک بہ بہر گاروں ہی کے لیے ہے جو ایک (خاص) نیکی لاینگا پس (اسکا بدلا)

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'مکرمہ' written vertically. The notes discuss the meaning of the verses and provide additional context.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the text.

خَذِرْنَاهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي

انکے لیے اُس سے بہتر ہوگا اور جو ایک (خاص) ماہری لائیگا تو اُن لوگوں کو جو بدی کیا کرتے تھے صرف وہی ہی بدل

الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

دیا جائیگا جیسے کہ وہ عمل کیا کرتے

يَعْمَلُونَ ○ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

تھے! یقیناً وہ جس نے تم پر قرآن کو واجب کیا ہے

لَرَأَدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

تو تمہارا ٹھکانے کی طرف لوٹنا میرا ہے تم یہ کہو کہ میرا پروردگار اُس سے بھی خوب واقف ہے جو

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ○ وَمَا كُنْتُ

ہدایت کو لیکر آیا اور اُس سے بھی (آگاہ ہے) جو مرن گمراہی میں ہے اور تمکو کوئی یہ امید

تَرْجُوا أَنَّ يُلْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ

نتھی کہ تم پر کوئی کتاب اتاری جائیگی مگر تمہارے پروردگار کی طرف سے

رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ○ وَلَا يَصُدُّكَ

رہت ہوگی پس تم ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہو نا اور تمکو آیات سے بہرہ

عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ ○ وَادْعُ إِلَىٰ

انکے کہ وہ تم پر نازل کی گئیں ہرگز کوئی چیز نہ روکے اور تم (لوگوں کو) اپنے پروردگار کی طرف

رَبِّكَ ○ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ وَلَا تَدْعُ

مُلہاد اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہو نا اور اللہ کے ساتھ

مَعَ اللَّهِ هِيَ الْآخِرَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلِّ شَيْءٍ

کسی دوسرے کو اللہ نہ بناو انکے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر چیز سولہ ہے اللہ

هَالِكٌ ○ وَالْوَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ ○ وَاللَّهُ يُرْجِعُ أَرْبَابَهُ

کے ہلاک ہو نیوالی ہے (اصلی) حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم سب کی باگشت ہوگی

خبر از آنکه این آیت را در وقت نزول آن فرمودند که ما را خبر دادند که خداوند تعالیٰ این آیت را فرموده است که هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد و هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد و هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد

بدری از خداوند تعالیٰ جزای بدی او خواهد داد و هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد و هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد و هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد و هر کس بدی کرد خداوند تعالیٰ او را جزای بدی او خواهد داد

الحکم

یوحنا میں تو ضرور ایک وقت ایسا آئیگا کہ ہر شے فنا ہو جائیگی مگر ذات خدا جو ازل وابدی ہے اور نور محمدی جو اٹلی تو نہیں کیونکہ مخلوق پر مگر ابدی ضروری کہ وہ باطن کا ہے اور ابدی ضروری کہ وہ باطن کا ہے اور ابدی ضروری کہ وہ باطن کا ہے

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'سورۃ العنکب' and various verses and commentary in Urdu.

۶۳۲ (Page number) and 'العنکب' (Chapter title) in a decorative header.

سُورَةُ الْعَنْكَبِ مَكِّيَّةٌ هِيَ تِسْعٌ وَسِتُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Bismillah)

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا

أَمْثَلًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَالَّذِينَ كَذَبُوا ۚ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ


وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا

يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ



Vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary on the verses.



Vertical handwritten notes on the right side of the page, continuing the commentary.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the title 'سورۃ العنکب' and various verses and commentary in Urdu.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

ایمان لائیوالوں سے یہ کہا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور تمہارے گناہوں

خَطْبِكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

بوجہ تم اٹھائینگے حالانکہ وہ اُنکے گناہوں کا بوجھ کچھ بھی نہیں اٹھائینگے

لَهُمْ لَكُذِبُونَ ۝ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ

وہ یقیناً جھوٹے ہیں اور ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائینگے اور

أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اور جو افترا پردازیاں وہ کیا کرتے ہیں قیامت کو

عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا

اُنسے اُنکے متعلق ضرور باز پرس کی جائیگی اور یقیناً ہے نوح کو اُن کی قوم کی طرف

إِلَى قَوْمِهِ فَلَئِمَّ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ

بھیجا پس وہ اُن میں بیچاس برس کم ہزار سال رب

عَامًا فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

پھر اُن (امت کے) لوگوں کو طوفان نے آیا جس حال میں کہ وہ نافرمان تھے

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً

اور ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور اُس کشتی کو تمام اہل عالم کے لیے

لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

ایک نشانی قرار دیا اور ابراہیم کو (بھیجا) جبکہ اُنہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تم اللہ کی عبادت کرو اور اُس سے ڈرو اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ

(سب سے) بہتر ہے سوائے اِسکے نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر

۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔

مشکل

وہ ٹھوکا کرتے تھے ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔

دُونِ اللَّهِ أَوْ شَانَاً وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ

توں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں بخود بخود بناتے ہو بالحقین وہ جنگی تم

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

خدا کے سوا پرستش کرتے ہو تمہارے کسی طرح کے رزق کا اختیار نہیں رکھتے

فَاَتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا

پس اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی پرستش کرو اور اسی کا شکر ادا کرو

لَهُ طَالِيَهِ تَرْجِعُونَ ○ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَمَا

اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلی آتین بھی

كُذِّبَ أُمَّمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ

بجھٹلا چکی ہیں اور رسول کے ذمہ سوائے کھولنے

لِلْأَبْلَغِ الْمِيْنِ ○ أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ

پہنچا دینے کے اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ خلق کی ابتدا کیونکر

الْمَخْلُوقَ ثُمَّ يَعْبُدُ أَطْلَانِ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

کرتا ہے پھر اُسکو دہراتا ہے بیشک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

تم یہ کہو کہ تم زمین میں چلو پھرو پھر غور سے دیکھو کہ اللہ نے خلق کو شروع

الْمَخْلُوقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ طَلَانِ اللَّهُ

کیونکر کیا پھر وہی اللہ اگلی آخری اٹھان بھی اٹھایگا بیشک اللہ ہر چیز کو

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ

(پوری پوری) قدرت رکھنے والا ہے جسکو وہ چاہیگا عذاب دیگا اور جسپر چاہیگا

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ تَقْلِبُونَ ○ وَمَا أَنْتُمْ

رحمت فرمایگا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم خدا کو

۱۔ اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں پوجتے اور اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہوگی اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلی آتین بھی کھول دی جائیں گی اور اللہ ہی اگلی آخری اٹھان بھی اٹھایگا بیشک اللہ ہر چیز کو پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے جسکو وہ چاہیگا عذاب دیگا اور جسپر چاہیگا رحمت فرمایگا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم خدا کو

سائل

لَهُ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَمَا كُذِّبَ أُمَّمٌ مِّن قَبْلِكُمْ... وَأُولَئِكَ لَمْ يَعَذِّبْ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ تَفْسِيرُ قِيَمٍ فِي جِهَاتٍ مِّن آيَاتِ

وَقَالَ إِنِّي مَهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

اور کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جاؤں گا وہ بڑا ہی بڑا ہے اور وہ زبردست (اور)

الْحَكِيمُ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ

حکمت والا ہے اور ہم نے انکو اسحق اور یعقوب عطا کیے اور انکی

جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۚ وَآتَيْنَاهُ

ذریعت میں نبوت اور کتاب قرار دیدیا اور انکا اجر انکو

أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۚ

دنیا میں (بھی) دیا اور آخرت میں (بھی) وہ صالحین میں سے ہونے

وَلَوْ طَلَّادٌ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي لَتَأْتُونَ

اور لو طلال کو (نبیجا) جو وقت کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ

الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ

بجیان کی بات کرتے ہو جو تم سے پہلے ساری خدائی میں کسی نے

الْعَالَمِينَ ۚ أَيْنَ تَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ

نہیں کی؟ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی

تَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيِكُمْ

بیہودگی کے سبب) راستہ بھی روکتے ہو اور اپنے جلسوں میں بدکاری

الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

کرتے ہو تو انکی قوم کے پاس سوائے اسکے اور کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے یہ

أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ

کہہ دیا کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ

(لوگ لائے) عرض کی کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے برخلاف میری مدد فرما۔

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'ہجرت' (Hijrah) written vertically on the left side.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ

اور جوت ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری لیکر آئے

قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ عِوَانًا

تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیوالے ہیں بیشک

أَهْلِهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطُ طَاةٌ

اسکے باشندے نافرمان ہیں (ابراہیم نے) فرمایا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں

قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ

اُن (فرشتوں) نے کہا کہ جو (جو) اس میں ہیں ہم اُن سے خوب واقف ہیں ہم ضرور اُن کو اور اُن کے گنہگاروں کو

إِلَّا امْرَأَتَهُ تَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَلَمَّا ن

جات دینے والے ہیں سوائے اُنکی زوجہ کے جو پیچھے رہ جائیوالوں میں سے ہوگی (اور جس وقت (وہی)

جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ

ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) لوط کے پاس آئے اُنکو اُنکا انا ناگوار ہوا اور اُنکے بارے میں اُنکو

ذُرْعًا وَقَالُوا لَوْلَا آتَيْنَاكَ

کوتاہ دست پایا تو انہوں نے کہا کہ نہ تم ڈرو اور نہ رنجیدہ ہو ہم تم کو اور تمہارے گنہگاروں کو

وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

جات دینے والے ہیں سوائے تمہاری زوجہ کے جو پیچھے رہ جائیوالوں میں سے ہوگی

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا

بیشک ہم اس بستی کے رہنے والوں پر جوہر اسکے کہ نافرمان کیا کرتے ہیں

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَلَقَدْ

آسمان سے عذاب نازل کر دیوالے ہیں اور یقیناً

تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

ہم نے اُن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اسی بستی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے

لَقَدْ

وَالِی مَدِیْنِ اِخَاهُمْ شُعَبًا فَقَالَ یَقَوْمِ

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) پس انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم

اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْتُوا

تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو اور زمین میں

فِی الْاَرْضِ مَفْسِدِیْنَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذْتَهُمْ

فساد نہ کرتے پھر وہ پس انہوں نے شعیب کو جھٹلایا پھر انکو زلزلہ

الرَّجْفَةَ فَاصْبَحُوا فِیْ دَارِهِمْ جِثْمِیْنَ ۝

نے آیا پھر وہ اپنے اپنے گروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے

وَعَادًا وَّثَمُوْدًا وَّقَدْ تَبَّیْنٰ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ

اور قوم عاد اور ثمود کو بھی ہلاک کیا، جنکے مکانات کے نشان تو تمہارے سامنے ہیں

وَزَيْنٍ لَّهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ فَاَصَدَّهُمْ

اور شیطان نے انکے اعمال کو ان کی نظروں میں زینت دیدیا تھا پس انکو راہِ راست

عَنِ السَّبِیْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِیْنَ ۝ وَقَارُونَ

سے روک دیا تھا حالانکہ وہ سوچھ بوجھ والے تھے اور قارون

وَفِرْعَوْنَ وَهٰمَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوْسٰی

اور فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کیا اور موسیٰ نے ضرور انکے پاس گھلی دلیلیں لیکر

بِالْبَیِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا

آئے تھے پھر انہوں نے اس سر زمین میں بڑائی چاہی اور انکی کج

سَابِقِیْنَ ۝ فَكَلَّا خَذٰنَا بِذُنُبِهِمْ فِیْنَهُمْ

پس نہ چلی پھر ہم نے ہر ایک کو اسکے گناہ کے عوض میں گرفتار کیا پس ان میں

مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حٰصِبًا ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ

کوئی تو ایسا تھا کہ ہم نے اسپر پتھر اور بھیجا اور کوئی ایسا تھا کہ

ہنگام

۶۴۰

العنكبوت

منزل السور

أَخَذَتْهُ الصَّبِيَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ

اُسکو بچنے آیا اور کوئی ایسا تھا کہ اُسکو اپنے زمین میں

الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ

دھسا دیا اور کوئی ایسا تھا کہ اُسکو اپنے ڈبو دیا اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے

لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

کہ آپ کو ظلم کرے لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے

مِثْلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

اُن لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں

كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ الَّتِي أَخَذَتْ بَيْتًا وَوَلَدَاتِ

کڑھی کی سی مثال ہے جنے ایک گھر بنایا حالانکہ

أَوْ هُنَّ الْبُيُوتُ لَبِيتِ الْعَنْكَبُوتِ مَلُوكًا نُورًا

یودے سے بودا گھر کڑھی کا ہے کاش وہ

يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ

اس بات کو جانتے ہوتے یقیناً اللہ اُس چیز کو جتے وہ اُسے سوا پکارتے

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ہیں جانتا ہے اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا

اور یہ مثالیں بیان تو ہم کل آدمیوں کے لیے کرتے ہیں حالانکہ سوائے اہل علم کے

إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

سبھتا اٹھوا ایک بھی نہیں اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو غرض سب کے ساتھ

بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ

پیدا کیا ہے بیشک ان میں ایمان لانیوالوں کے لیے نشانی موجود ہے

فہم کوئی علان نہیں ہو سکتا ۱۲ علیہ وناقیقہا آلا العالمون شہر قمر ہے کہ انما یؤمن سے ارواں کھڑیں اور شہر قمر آلیان میں ہے کہ بنیاد رسول خدا نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ



دفعہ نام

۱۲

فہم وہ ہے جو خدا کی طرف سے بھرا رکھتا ہو۔ اہل طاعت کے بوجہ مل کرتا ہو اور اسکی نمازی سے اجتناب کرتا ہو ۱۲